

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

بزرگ نے بتایا کہ جنگل کے پار ایک پہاڑ ہے جہاں وہ پھول اگتا ہے جس کی خوشبو سے آنکھوں کی کھوئی ہوئی روشنی لوٹ آتی ہے، مگر پہاڑ بہت بلند ہے اور اس پر بے شمار چٹانیں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے پتھر ہیں جو راستہ روک لیتے ہیں۔ اس پہاڑ پر جانے کے لیے کئی لوگ آئے اور چلے گئے مگر ایسا کوئی شخص نہیں آیا جو پھول تک پہنچا ہو۔ شاید اسی لیے دنیا میں دکھ اور تکلیف ہے اور انسان روشنی کی تلاش میں ہے۔

The sage told that there is a flower on a mountain across the forest, with ~~wh~~ whose fragrance the lost eyesight is restored. However, the mountain is too high with countless rocks. Also, it has thorny bushes and giant stones, which block the way to mountain. In order to surpass the mountain, a lot of people

came, but, no one could reach the
flower and returned with empty
hands. perhaps, for that there is
suffering and sorrows in the world
and man is in the search of
light.

(D) Re-write the following sentences (ONLY FIVE) after filling in the blanks with appropriate Prepositions. (05)

- (i) The neighbours came _____ my house to see what's going on in the house.
- (ii) She sat _____ the shade of the tree.
- (iii) The moon does not shine _____ its own light.
- (iv) The burglar jumped _____ the compound wall.
- (v) She entered _____ an agreement with them.
- (vi) I have been working hard _____ arithmetic.
- (vii) He got _____ his bicycle.
- (viii) It cannot be done _____ offence.

1) into

2) under

3) with/by

4) off

5) into

6) in

7) off

8) through